

Appeal No. 586/2013.
Mr. Younsang Kim.


14.01.2015

None for the appellant present. On previous date none was present on behalf of the appellant and notice to appellant and his counsel issued for today but even today, none is available on behalf of the appellant. As such the appeal is dismissed in default.

File be consigned to the record.


ANNOUNCED

14.01.2015


Member

3.
04.06.2014

Counsel for the appellant present. Preliminary arguments partly heard. Pre-admission notice be issued to the learned GP to assist the Tribunal. To come up for preliminary hearing on 16.07.2014.


Member


4.
16.07.2014

No one is present on behalf of the appellant. Mr. Ziaullah, GP for the respondents present. To come up for preliminary hearing on 29.08.2014.


Member

5.
29.08.2014

No one is present on behalf of the appellant. Mr. Ziaullah, GP for the respondents present. Notices be issued to the appellant/counsel for the appellant. To come up for preliminary hearing on 27.10.2014.


Member

6.
27.10.2014



No one is present on behalf of the appellant. Mr. Kabirullah Khattak, Asst. Advocate General for the respondents present. Notices be issued to the appellant/counsel for the appellant. To come up for preliminary hearing on 14.01.2015.


Member

Form- A
FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No. 586/2014

| S.No. | Date of order Proceedings | Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate |
|-------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 24/04/2014 | <p>The appeal of Mr. Yousaf Khan resubmitted today by Mr. Umer Zad Shah Bukhari Advocate may be entered in the Institution register and put up to the Worthy Chairman for preliminary hearing.</p> <p style="text-align: right;"> REGISTRAR</p> |
| 2 | 7-5-2014 | <p>This case is entrusted to Primary Bench for preliminary hearing to be put up there on <u>4-6-2014</u>.</p> <p style="text-align: right;"> CHAIRMAN</p> |

The appeal of Mr. Yousaf Khan son of Nasrullah Jan received today i.e. on 09.04.2014 is incomplete on the following scores which is returned to the counsel for the appellant for completion and resubmission within 15 days.

- 1- Memorandum of appeal is unsigned which may be got signed by the appellant
- 2- Copy of attendance register mentioned in para-2 of the memo of appeal (Annexure-B) is not attached with the appeal which may be placed on it.
- 3- Affidavit may be got attested by Oath Commissioner.
- 4- Annexures of the appeal may be attested.
- 5-

No. 583 /S.T,

Dt. 09/04 /2014.



**REGISTRAR
SERVICE TRIBUNAL
KHYBER PAKHTUNKHWA
PESHAWAR.**

Mr. Umar Zad Shah Adv. Bannu.

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL K.P PESHAWAR

Service Appeal No 586/2013

Yousaf Khan S/O Nasur Ullah Jan GMPS, Malak Yar Muhammad
Khan Bannu

Appellant

VERSUS

1. District Education Officer (Male) Primary & Secondary Bannu
(Ex-DO E & S Education Bannu)
2. Director Elementary and Secondary Education, K.P Peshawar.
3. Secretary, Elementary and Secondary Education Govt. of K.P
Peshawar.

Respondents

INDEX

| SNo | Description of Documents | Annexure | Pages |
|-----|---|----------|-------------------|
| 1 | Service appeal with affidavit | | I to 4 |
| 2 | Application for the interim relief | | 5 |
| 3. | Copy of appointment order & Charge Report | A | 6 to 7 |
| 4. | Copy of application for salary | B | 8 |
| 5. | Copy of plaint & order | C & D | 9 to 16 + 17 + 18 |
| 6. | Copy of departmental appeal dated 31/5/12 | E | 19 - |
| 7 | Wakalatnam | | 20 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

Appellant

Dated: 22/01/2013


Through

Umer Zad Shah Bukhari

Advocate Bannu

Umer Zad Shah Bukhari

Yousaf Khan



Advocate Bahau

Umer Zaid Shah Bahau

Through

Date: 25/01/2013

Appellant

| | | | | |
|-----|------------------------------------|--|----------|-------|
| 0 | | | | |
| 8 | | | | |
| 1 | Makalamin | | | 10 |
| 0 | Copy of departmental appeal | | E | 10 |
| 2 | Copy of plaint & order | | CAD | 10 |
| 4 | Copy of application for salary | | B | 10 |
| 3 | Copy of appointment order & Charge | | A | 10 |
| 5 | Application for the interim relief | | | 10 |
| 1 | Service appeal with affidavit | | | 10 |
| S/O | Description of Documents | | Annexure | Pages |

INDEX

Respondent

- 3 Registrar, Elementary and Secondary Education COM of K P
- 5 Director, Elementary and Secondary Education, K P Bahau
- (E-DO E & S Education Bahau)
- 1 District Education Officer (Male) Primary & Secondary Bahau

VERGUS

Appellant

Khan Bahau

Youngst Khan S/O Masud Ullah Khan CMPS, Malek Yar Muhammad

Service Appeal No. 10/2013

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL K.P. BAHAU

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL K.P PESHAWAR

Service Appeal No 586/2013

P. I

Yousaf Khan S/O Nasur Ullah Jan GMPS, Malak Yar Muhammad Khan Bannu

Appellant
527
09-4-2014

VERSUS

1. District Education Officer (Male) Primary & Secondary Bannu (Ex-DO E & S Education Bannu)
2. Director Elementary and Secondary Education, K.P Peshawar.
3. Secretary, Elementary and Secondary Education Govt. of K.P Peshawar.

Respondents

APPEAL U/S 4 OF THE K.P SERVICE TRIBUNAL ACT 1974. FOR THE RELEASE OF PAY W.E.F. FROM 26-10-2009 TILL DATE WITH ARREARS OF ALLOWANCES ETC FOR WHICH THE DEPARTMENTAL APPEAL OF THE APPELLANT HAS NOT BEEN RESPONDED SO FAR, DESPITE THE LAPSE OF STAUTORY PERIOD.

AD

PRAYER:-

On acceptance of the appeal appropriate directions may please be issued to the respondents to act in the matter in accordance with law and to release monthly salaries to the appellant w.e.f. 26-10-2009 till date with arrears of allowances and connected benefits.

Yousaf

Respectfully Submitted:-

24/4/14

1. That the appellant joined the respondent Department as Primary School Teach is on 24-10-2009, received charge on 26-10-2009 and since then He performed his duties with honesty and full devotion. (Copy of appointment order and charge transfer certificate are enclosed as Annexure A).
2. That since appointment the appellant is regularly performing his duties to the entire satisfaction of superior officers but strange enough that since appointment the monthly pay with all connected allowances and back benefit have not been paid to his without an omission or commission on his part.

as-submitted to and filed.

24/4/14

[Redacted signature area]

(Respondent's custody is enclosed as Annexure B)

commission on his behalf (Copy of attendance register with
and back benefit have not been sent to his school on omission of
that since appointment the monthly pay with all connected allowances
dues to the entire satisfaction of superior officers but strange enough
that since appointment the respondent is regularly performing his
duties enclosed as Annexure A)

(Copy of appointment order and charge transfer certificate are
since then he performed his duties with honesty and full devotion
School Teacher is on 34-10-5000 received charge on 30-10-5000 and
that the respondent joined the respondent Department as Primary

Respectfully Submitted:-

amounts of allowances and connected benefits
release monthly salaries to the respondent with 30-10-5000 till date with
issued to the respondent to act in the matter in accordance with law and to
On acceptance of the above stipulated conditions may please be

BY/LEB:-

THE PERIOD OF SERVICE PERIOD
HAS NOT BEEN RESPONDED TO BY DESPITE
DEBARKMENTAL ABSENCE OF THE APPELLANT
ALLOWANCES ETC FOR WHICH THE
FROM 30-10-5000 TILL DATE WITH ABSENCE OF
70% FOR THE PERIOD OF 74 M.E.E
ABSENCE IN 4 OF THE K.P SERVICE TRIBUNAL

Respondent

- 3. Secretary, Elementary and Secondary Education COM of K.P
- 3. Director Elementary and Secondary Education, K.P Beshwar
- (Ex-DO E & S Education Branch)
- 1. District Education Officer (Male) Primary & Secondary Branch

LEB/212

Handwritten notes and stamps, including a date stamp 'Nov 11 1952' and a signature 'Khan Bannu'.

Khan Bannu

Young Khan 210 Husain Ullah Khan CMPS, Malik Sar Muhammad

Service Appeal No. 13013

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL K.P BESHWAR

3. That the appellant time and again approached respondents and submitted so many applications for the release of his monthly salaries and his connected allowances etc but no fruitful result came out.
4. That even the appellant approached the Court of Senior Civil Judge Bannu for the purpose on 13/12 (Civil Judge No.05 Bannu) which plaint was returned to the appellant vide order dated 08/06/12. (Copy of plaint and order are enclosed as Annexure C & D).
5. That the appellant filed Departmental appeal on 31/8/12 which has not been responded so far despite the lapse of more than sixty days. (Copy of appeal is enclosed as Annexure E).
6. That the action of the respondents of not releasing the monthly pay with this connected allowances etc of the appellant is against the law, facts and principles of justice on grounds inter alia as follows:-

GROUND:-

- A. That respondents have not treated the appellant in accordance with law and rules on the subject and acted in violation of Article 4 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973.
- B. That the appellant has regularly performed his duties with honesty and his is no complaint of any sort against his and He is entitled to the pay and his allowances etc for such period.
- C. That the performance of duty without salary amounts to force labour which is prohibited under Article 11 of the Constitution coupled with his Articles.
- D. That the appellant has not been treated in accordance with law and rules on the subject
- E. That the action of the respondents is against the principles of social justice guaranteed in the Constitution.
- F. That the appellant seeks the permission of the honorable tribunal for further/additional grounds at the time of arguments.

It is therefore prayed that appeal of the appellant may kindly be accepted as prayed for in the heading of the appeal.

Any his relief as deemed appropriate in the circumstances of the case, not specifically asked for, may also be granted in favor of the appellant.

Dated 22/01/2013

P. 3

Appellant

Through

Umer Zad Shah Bukhari


Umer Zad Shah Bukhari

Advocate Bannu

AFFIDAVIT

I, Yousaf Khan S/O Nasur Ullah Jan GMPS, Malak Yar Muhammad Khan Bannu do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of the Appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from the honorable Tribunal.

Identified by



DEPONENT

Umer Zad Shah Bukhari

Umer Zad Shah Bukhari

Advocate Bannu

Umer Zad Shah Bukhari

P. 11/4

AFFIDAVIT


I, Yousaf Khan S/O Nasur Ullah Jan GMPS, Malak Yar Muhammad Khan Bannu do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of the Appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from the honorable Tribunal.

Identified by

DEPONENT

Umer Zad Shah Bukhari
Umer Zad Shah Bukhari

Advocate Bannu



Yousaf

60

BEFORE THE SERVICE TRIBUNAL K.P PESHAWAR

Service Appeal No ___/2013

Yousaf Khan S/O Nasur Ullah Jan GMPS, Malak Yar Muhammad
Khan Bannu

Appellant

VERSUS

1. District Education Officer (Male) Primary & Secondary Bannu
(Ex-DO E & S Education Bannu)
2. Director Elementary and Secondary Education, K.P Peshawar.
3. Secretary, Elementary and Secondary Education Govt. of K.P
Peshawar.

Respondents

**APPLICATION FOR THE RELEASE OF CURRENT
SALARIES TILL THE FINAL DECISION OF THE APPEAL**


Respectfully submitted:-

1. That the accompanying appeal is being filed today in which no date of hearing has been fixed so far.
2. That the grounds of appeal may be considered as integral Part of the application.
3. That the impugned action of the respondents being void abinitio, illegal and the result of mala fide and the appellant has a good prima facie case in his favor.
4. That the appellant is sanguine of his success in the case and the balance of convenience lies in his favor.
5. That if the impugned order is not suspended the appellant would suffer an irreparable loss.

It is therefore prayed that on acceptance of the application, the respondents may kindly be directed to release the current salaries of the appellant till the final decision of the accompanying appeal.

Appellant

Dated:22/01/2013


Through
Umer Zad Shah Bukhari
Advocate Bannu

**OFFICE OF THE EXECUTIVE DISTRICT OFFICER, ELEMENTARY & SECONDARY
EDUCATION BANNU**

Annexure-A

APPOINTMENT ORDER

On acceptance of representative and in compliance to the Honourable Supreme Court of Pakistan judgment dated 28/5/2002 and Honourable Peshawar High Court Bench D.I. Khan judgment dated 28/04/2004 & consequent upon the recommendation of the Department of the Department recruitment committee, the undersigned is please to appoint the following PTC (Male) Denied Candidates of AIOU, 1999 from the merit list in BPS-07 as per PTC recruitment policy plus usual allowances as admissible under the rules; in the schools noted against each candidates with effect from 01/12/2009 in the interest of public service subject to the terms and conditions given below:

P 6

| S.No | Name of Candidate | Father's Name | Address | Denied | BPS | Place of Posting | Remarks |
|------|-------------------|----------------|---------|-------------|-----|------------------------------------|---------|
| 1 | Yousaf Khan | Nasr Ullah Jan | Kakki | Denied 1999 | 07 | GMPS Yar Muhammad Khan Mamash Khel | V/Post |

TERMS & CONDITIONS

- 1- Their services will be considered regular bat without pension and gratuity in term of Section-19 of NWFP, Civil servant Act, 1973 as amended vide NWFP, civil servant (Amendment) Act, 2005. He will however be entitled to contributory provident Fund in such a manner and such rates as may be prescribed by the Government.
- 2- His services will be liable to termination on one month's notice from either side, in case of resignation without notice their / his two months pay / allowances shall be forfeited to Govt.
- 3- The appointee should submit their charge report to all concerned.
- 4- His services can be terminated at any time, in case his / their performance is found unsatisfactory during probationary period. In case of misconduct he/they will be preceded against under the NWFP removal from service Special ordinance 2000 & the rules framed from time to time.
- 5- The candidates should join his / their post with in 15 days. The head of the institution concerned should furnish a certificate to the effect that the candidates has joined the post or otherwise, after 15 days of the issuance of this order, failing which, their / his order will be treated as cancelled.
- 6- The appointee is directed to perform his duties in his respective school noted against his name for a minimum period of one year.
- 7- The appointee will produce undertaking on stamp paper to the effect that the District Domicile already produced on or before, 08/07/2006 if found that his previous FR Domicile is not cancelled, then he will be removed from service with out issuing any notice.
- 8- In case of fake certificates / Degree or any other mistake in the said appointment order detected later on the undersigned reserves the right of amendment them service and disciplinary action will initiated against the teacher concerned.
- 9- They are required to produce health & Fitness Certificate from the Medical Superintendent concerned before taking over charge.
- 10- Their original certificate Degree should be verified from the Concerned Board / University Institution on his own expenses before the release of their pay.
- 11- No TA / DA etc is allowed.

*Answer to letter
see copy
12/11/09*

Sd/-
(BAKHTULLAH SHAH)
EXECUTIVE DISTRICT OFFICER,
ELEMENTARY & SECONDARY
EDUCATION, BANNU

Endst. No 20966-70 AE-EDO (M) PTC: Apptt: Dated Bannu the 24-10-09

Copy for information & necessary action to the:-

- 1- Director of Elementary & Secondary Education NWFP Peshawar.
- 2- Commissioner Bannu Division Bannu
- 3- District Coordination officer Bannu.
- 4- District Account Officer Bannu.
- 5- District Nazim Bannu
- 6- Medical superintendent . DHQ Bannu with the remarks that Health & Fitness certificate may not be honored with out the authority issued by the above named officer.
- ✓ 7- Candidate Concerned

Bakhtullah Shah
EXECUTIVE DISTRICT OFFICER,
ELEMENTARY & SECONDARY
EDUCATION, BANNU

P(7)

Annexure-A

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE.

1. Certify that we have on the forenoon of this day respectively made over and received charge of this Office of the

C. M. P. S. Malik. Yaq. Mehammed Khan

10-11-2009

Vide E.D.O. E&SE Bannu

do = 21501-6

dated 2-11-2009

2. Particulars of cash and important secret and confidential documents handed over are noted on the reverse--

Signature of relieved Government servant

Designation

Station *Bannu*

Signature of relieving Government servant

Designation *P.T.C. or P.S.T.*

Dated

Forwarded to the *E.D.O. E and SE Bannu*



N.-W.F.P., Acctt. Try. No. 42.

Amir Singh & Co
Trustee

درخواست رقمہ ماہوار تنخواہ ریلیف
3. عینہ 26/10 سے بغیر کسی
دکنہ بندہ کے لئے ایڈوانس ماہوار
Pay اور سب جمع شدہ حصہ کا
مستحق ہونے کی ریلیف فراہم کیا گیا

جی. اے. علی
منیجر ایڈو ایٹو
دکنہ بندہ کے لئے
ماہوار تنخواہ کی رقم
11.8.2010

Handwritten signature
Copy



Handwritten signature

لغز الا انما... من... و... و...

لبدايات فباختيار من... صاحب بوقت

9

يوسف خان دغيره مدعيان... EDO... و...

Or... دعوى استحقاق... و...
J.F.C-VIII Bannu 8/6/12

درخواست برآمد در... و...
مدعی علیم کو...
ریلیف دیگر...
Direction دی جاوت

منیر مدعی علیم کو...
کا پوسٹوں پر...
اور فائدہ...
ظاہر...
اور ضائع...

صاحب عالی

درخواست... دین...

ATTESTED
Copying Agency
Lower Court Bannu

23/12/18

یہ کہ مدعیان کا... عدالت...
ہرگز... وقت...

... مدعیان کا...
... اور مدعیان...
قوی احکام...

3 - یہ کہ سولہ کاٹوازن مامد عین کے حق میں ہے مد علیہ کا لیسہ پڑھ
 قاعدہ میں اسلئے مد علیہ مامد عین کو فون لینے کی گمانی
 دینے سے انکاری ہیں اور تنخواہ جات Release کرنے کے
 میں لیکر و لعل سے کام لے رہا ہے۔

10

Or -
 / /
 J. F. C-VIII Bannu

4 - یہ کہ مد علیہ دیدہ دائرہ اور قصلہ انتخواہ جات کے اختیار مامد عین پر
 کیجنگ کیوں نہ انجام دیا گیا ہے مد علیہ مامد عین کو
 مسلسل ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے ہارنگ مد علیہ مامد عین
 مامد عین کے ساتھ دیگر گھبرتی شدہ پٹھانوں کو تنخواہ جات اور دیگر
 مراعات عطا کیے جو کہ اقتداری ملک ہے۔

5 - یہ کہ اگر مامد عین کو تنخواہ جات، معاہدہ اور Previous Arrests
 ساتھ تنخواہ جات مد علیہ ریلنگ کرنے کے ان کی اہلیات جاری ہیں
 تو مامد عین کی حادری سے پوچھا گیا جبکہ مد علیہ کی قسم نقصان
 پہنچنے کا انہیں شہ ہے۔

6 - کہ جملہ مزید Paint ملحقہ اس درخواست پر
 Partly Parcel سمجھا جائے

ATTESTED
 Copying Agency
 Lower Court Bannu

23/12/15

میں باوجود عین الہ سند علیہ کی درخواست
 بابت علیہ مامد عین کی طرف سے کوئی اور جملہ پارٹ

22-3-2012

یوسف خان ڈیڈہ مامد عین
 Khana

Handwritten signature and notes

لکھنؤ میں مقیم رہنے والے 8 بیویاں
 بعد ازاں صاحب سیرس میں 6 صاحبہ ضلع ہونے

تعداد 9 (دو) 22 3/12 صفحہ 72-6-8

1- یوسف خان ولد نصر اللہ خان سکے لکھی ضلع ہونے - 12/5

2- محمد خالد خان 5/6 رقم عمارت سکے اللہ داد حسن فعل ہونے

11

Or
 22/3/12
 S.C.O. BAHU

VERSUS

1- EDO - اینڈیکو اینٹر حملہ لکھی ضلع ہونے

2- سیکرٹری ایجوکیشن ایمر اینڈ ہونے ضلع ہونے

3- ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس ایمر ایمر ایمر ایمر ہونے

4- اکاؤنٹس (Male) Accountant ایمر ایمر ایمر ہونے

5- ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایمر ایمر ایمر ہونے (Male)

دعویٰ ملنے ڈگری دستاویز یہ بدین ہونے کہ مہدی خان مدد علیہ ہونے
 مدد علیہ ہونے کہ ایمر ہونے میں بدینہ 28-10-09 26-11-09

خبر A

RECEIVED
 OF THE AGENT,
 Lower Court Bahau
 23/12/12


حکم لکھی DPC/DSE لکھی پوری کرنے کے بعد لکھی PST/PST

PTC پیجز 70-66-20966 No Endst
 6-507-21 No Endst

کا تحت خبر لکھی ہونے

از تواریخ عبرتی التورای مامد عدنان فرائض منجی ادا کرن د پوٹیا سر انجام دیا
دیگر Post زمانہ د مردانہ کی مانند ٹیپا جی سابقہ مراعات و سلازم انگریزینش
Monthly Salaries ریلیز کرن مستحق ہیں مقدار میں عتدال دراز
دیا جائے مابانہ تنخواہات ادا و عطا کرن کرانہ کے عد علیہ مابانہ میں
یا بند بنانا جیاد نیز تنخواہ جی مابانہ ریلیز نہ کرنا (Previous Awards نہ دینا
انکار کرنا. Legal hold کرنا اور بغیر کسی مقصود و حکم داد رسی نہ کرنا
کرنا صرف سردس روٹن دریکویشنز ہے امتیازی ٹوکاں جنہی بہ
بوشنی افعال فراڈ اور Mala Fide کار میں آتا ہے معاش
میسوار تنخواہ جی ادا نہ کرن کرانہ لہریا این سٹیشن 1973
ریٹیکل 25 کی کلمہ خلاف وزری ہے لہذا انکار لیت و کلمہ
Tale hukki ایملد حقوق مامد عدنان غیر موثر و کالیم ہے مامد عدنان
جی بل داد رسی ہے بحق عدنان نہ صرف عد علیہ مامد عدنان فقط

of 1
22/3/12
S.C.



دعویٰ سپورڈگری مابیت وصولی جی کلمہ تنخواہات
Joining Previous Awards از تواریخ ڈیوٹی
تا امروزہ آئندہ وصولی جی تعلقہ مقدمہ
نیز عد علیہ کو مابانہ بنایا جی کہ وہ معروہ Legal
Obligation ادا کرے اور اپنے فرائض بولائی قانون
ادا کرن سے مفردی ظاہر نہ کرے بحق عدنان بہ
صرف عد علیہ مامد عدنان مقدمہ

جز B

ATTESTED
[Signature]
12/12/71

معدودہ ڈگری علیٰ امتیازی دوامی دیا گیا ہے۔ یہیں مضمون کے مطابق
 کوئی تبدیلی یا تبدیلیاں جاری نہ کی گئی ہیں۔ یہاں سے یہاں تک کہ وہ معدودہ جملہ ریکارڈ لکھنا
 دیکھ کر ڈائری میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تبدیلی نہیں
 اور Requirements دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک کہ وہ معدودہ افراد
 کو عملی طور پر لکھنا ہے وہ وہ obligation لکھنا اور اس کے
 مدعیان کے حقوق کے بارے میں Release لکھنا اور اس کے قسب مدعیان
 کی فراغت منجہ سے غیر قانونی بلدا اختیار اور غیر ایسی ریکارڈ
 نہ ڈالیں۔ یہاں تک کہ مدعیان پر خلاف علیہ مضمون فریضہ مقدمہ

13

Or
 22/3/12
 S.C.

مالیہ مقدمہ لکھنا اور اس کے
 ABC Rs 200 + 200 + 200

مالیہ مقدمہ لکھنا اور اس کے
 ABC Rs 15 + 15 + 15

مدعیان کے حقوق - دفعہ مدعیان ذیل کے

- 1- یہ کہ مدعیان، علیہ مضمون کے اصول سے مدعیان کے بارے میں PTE
 PTE کے بارے میں کوئی تبدیلی نہیں لکھنا اور اس کے بارے میں وقفہ
 سے Single & Jointly، Separately آرڈر لکھنا Dsc Dpc
 سیکشن کے بارے میں سفارت تیار ہے اور یہ کہ 18-11-09 کے بارے میں
- 2- یہ کہ مدعیان نے دیگر عدالتوں میں اپنی اپنی آپوزیشن (Appointment)
 orders لکھنا اور اس کے متعلق شدہ سکوٹر میں جملہ لوازمات
 لکھنا اور اس کے بارے میں سفارت تیار ہے۔
 تیار اور لکھنا اور اس کے بارے میں سفارت تیار ہے۔
- 3- یہ کہ مدعیان کے بارے میں علیہ مضمون کے اصول سے 2009 میں 505670
 تربیت یافتہ اور Untrained اس کے بارے میں کوئی تبدیلی نہیں لکھنا اور اس کے
 (PL نمبر 4)

ATTESTED
 Copying Agency
 Lower Dept. Bldg.

عبرت کی ہے جو کہ وہ ماہوار تنخواہ جتنی دھولے کرتے رہتے ہیں اور بغیر کسی
Tention معائنہ میں رہیں

(N)

4- یہ کہ بعد از تقرری کی گئی Joining سے قبل سید علی نے تنخواہیں وصول کرنا
ہدایت سے علیہ بنوا کر تمام تقاضات کواری کر کے وہ علیہ کو ہوا ہے کہ یہ
اور ہدایت سے علیہ نے جو Documents سے
بھی verify کیے ہیں اور سروس آڈٹ کیلئے مدد سے علیہ نے اپنی
قرار دے دی ہے۔ اور اس کے ذریعہ دیکھوں کو جاری رکھتے گی تاکہ
از علیہ فرمائی گئی ہے۔ تعمیرات

12
3
28

5- یہ کہ سید علیہ نے Mala Pede اس اقدام سے صاف ظاہر ہے کہ سید علیہ
18.4.58 سے سید علیہ ان وقتاً فوقتاً میں Separate
Judicial اور زر کے ذریعہ مردانہ و زنانہ Calendars کی تقرری
مختلف تواریخ پر ہے جن میں زیادہ تر کو تنخواہ جات سے لوڑا
ہیں اور ان کے تنخواہ جات Release ہو چکے ہیں جس کے بعد ان کے
تعداد میں (2) بغیر معائنہ و Labour کام کر رہے ہیں
جو کہ جو بھی طلب اور زیادتی نہیں صرف علیہ کے لیے پروردہ کو فراہم
کئے دہے ریگرو گنڈے مالکی اور اس میں پاکستان قانون سے ان کے
کے تنخواہ جات Previous و Current تنخواہ جات کے ادا کیے
کرنے کے لئے میں روزے اٹھاتے ہیں۔

6- یہ کہ اس میں پاکستان 1973 اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی
تنخواہ جات معاوضہ اور ادا نہ کرنے کے اور نہ کرنے کے قانون
میں اس میں قرار دیا ہے۔ قانون اور اس میں اس میں تنخواہ جات
(PL Sheet No 5)

ATTESTED
Copying Agency
JUDICIAL COURT BALUCH

27-12-75

15

5

میرزا کرنا اہل وقت لہذا - معلوم ہے دنیا اور مصائب اہل وقت کے
 کے بقدر کہیں پر کام کرنا کرنا Force Labour کے زمرے میں آتا ہے
 جو کہ قطعاً غیر شرعی غیر انسانی اور غیر قانونی ہے اور اختیار اقدام میں
 اور اس قسم اقدام غیر قانونی مدعا علیہ مادم عدنان پر ازمانا ہے
 جو کہ مادم عدنان پر غیر موثر ہے

7- یہ کہ مادم عدنان نے مدام علیہ کی 2-1 گواہی در خواستیں (اور ان کی بارگاہ
 میں راجہ کر کے قتل گاہت کہ کہ ہمارا - مادم عدنان کو دیگر

| | |
|----|------|
| 22 | 3/12 |
|----|------|

عسری نزد اسلندہ کرانہ کہ 29 سے یہ Previous Arrests
 وہ ہوا کرنٹ رننگ Pay وغیرہ کی ادائیگی کا علیحہ ہمار
 کہیں مگر مدام علیہ ادائیگی تو درنہارا لہذا مادم عدنان کی لفظی
 تقرریاں ریکارڈز میں دیگر دست دینا ات گم و غما کر کے رات
 کا دریا ہیں اسلئے دعویٰ عدنان کی ضرورت مرقی ہوئی

8- یہ کہ سابقہ دعویٰ از ماہ 9 1959ء و دہائیہ از ان کا در 6 مہینہ مادم علیہ

ہوئی جو کہ اختیار کا عدالت کی طرف سے ہے

9- یہ کہ مادم عدنان کے عمل ریکارڈز درجہ لفظی تقرری لیکر

دیوائس Dse / Dpe کی سفارتات عنیدہ مدام علیہ کی طرف

میں سے تلف و ضائع و گم نہ کریں نہ ادو میں کریں

اور عدالت کی طرف سے عمل ریکارڈ گم نہ کریں نہ کرنا

AT
 23/12/19

کے پاس بند ہیں (CPI Sheet No B)

۱۰۱ - یہ کہ مادیہ فقہ لبرفیکوٹ فی واقفہ کی عہدہ درج عمران عزیز کوئی ہے

لیکن باوجود ہوا بالذکر سند علیہ کہ ڈگری بحق مدد عثمان محمد علیہ
مدد علیہ جو جو ہر قدمہ ہمارا فرمایا جاوے

16

22 - 3 - 2012

22 | 3 | 12

یوسف حسن
خانہ حسن
مدد عثمان

نزدیک درگاہ عثمان

محمد یوسف

محمد علیہ

عزیز احمد عثمان

Abdul Aziz

تقریباً تین تین 3/12

آزاد رہا لبرفیکوٹ جاتی ہے
کہ قلم برائے عزیز کوئی ہے
سہولت علم و لکھن سے دست
اور اس طرح

- 1. Registration No. 11729
- 2. Date of Presentation 20/12/11
- 3. Date of Receipt 23/12/11
- 4. Date of Presentation 23/12/11
- 5. Date of Receipt 23/12/11
- 6. No. 16
- 7. On 12
- 8. Total Fee
- 9. Total Fee
- 10. Signature of Copyist

یوسف حسن
خانہ حسن
عزیز

ATTESTED
Copying Agency
Lawyer Court Bar
23/12/11

محمد یوسف

Annexure-D

17

السيدان قصاب ۱۱۱۱ / ۲۹
۲۲-۳-۰۱۲ ۸-۸-۱۲

مستورین : یوسف بنام عدوہ المومنین
1215
12

Order # 09:
08.06.2012

Parties present. Arguments heard today and record perused.

Vide my this short order I shall dispose off an application for grant of temporary injunction, moved by the plaintiffs against the defendants, directing them to release their salaries and to restrain them from making new appointments on their posts of PTC/PST. The said application was strongly objected by the opposite party on the ground that plaintiffs have got no cause of action at all, hence their application as well as suit be dismissed.

Record shows that plaintiffs through their suit stressed for declaration cum perpetual injunction against the defendants, to the

ATTESTED

Copying Agency
Lower Court Bann

effect that they were appointed as PTC/PST teachers on 02.11.2009, 24.10.2009, vide endorsement No.20966-70 and 201507-6 after fulfilling all the legal formalities. That since the date of their joining duty, they have not been paid salaries by the defendants, so recovery of the salaries (outstanding and current) also sought by the plaintiffs. In support of their stance plaintiffs annexed with the plaint, their appointments letters. Defendants in their written statement stressed that plaintiffs are not civil servants at all, as their name are not included in the list dated:28.04.2004 prepared as per the order of the August Peshawar High Court, D.I.Khan bench and that this Court has got no jurisdiction to entertain the instant suit.

Now whether the plaintiffs have been appointed or not? Although this point can be resolved through pro and contra evidence but at this stage plaintiffs got hold of the appointment letters which makes them a civil servant under Civil Servant Act, 1973 and so this Court has got no jurisdiction to entertain instant suit, as matter is relating to the Service Tribunal and Service Tribunal alone is the appropriate forum having jurisdiction to take with matters relating the terms and conditions of Civil Servants. Therefore, this Court has got no jurisdiction to entertain the instant suit as the same is returned under Or.7 R.10 of CPC.

No order as to cost. File be consigned to record room after necessary completion.

ANNOUNCED
08.06.2012

Farzina
(Farzina Shaid)
Civil Judge-VIII.
Bannu.

| | |
|--|---------|
| 1. Registration No. | 842 |
| 2. Date of Presentation of Application | 18.2.14 |
| 3. Date of Receipt of the file | 19.2.14 |
| 4. Date of Presentation of Copy | 18.2.14 |
| 5. Date of Receipt of Copy | 18.2.14 |
| 6. No. of words | 2 |
| 7. No. of pages | 4 |
| 8. No. of copies | 4 |

ATTESTED
Copying Agency
Lower Court Bannu
19.2.14

مختصر کتاب ریگریٹس و لیکچر ڈاکٹر افندیہ ایچ بی این (EBO)

Annexure - F

درخواستیں ایسے ہی کی جاسکتی ہیں جو کہ لیکچر ڈاکٹر افندیہ ایچ بی این کے پاس
2009 سے تیار کی گئی ہیں

19

صاحبزادہ - سائل ٹیچر وکیل گزٹڈ کنوینشن

1 - یہ کہ میں سائل 24 اکتوبر 2009 میں لاہور
ہائیکورٹ میں لیکچر ڈاکٹر افندیہ ایچ بی این کے
2 - یہ کہ میں سائل ٹیچر وکیل گزٹڈ کنوینشن میں
اور لیکچر ڈاکٹر افندیہ ایچ بی این کے پاس
کر چکا ہے

3 - یہ کہ میں سائل ٹیچر وکیل گزٹڈ کنوینشن میں لیکچر
ڈاکٹر افندیہ ایچ بی این کے پاس
Jurisdiction دائرہ اختیار کیا گیا ہے جو کہ
دعویٰ والی کر چکا ہے
یہ کہ میں سائل ٹیچر وکیل گزٹڈ کنوینشن میں
ریٹریٹرز اور Previous Arrangements کے
کا حکم لیا گیا ہے

No. 81
For Insurance Notices see reverse.
Stamps affixed except in case of
insured letters of not more than
100gms weight in the
Rs. 5/-
33/-

2107-010-2012
17/11/12
ایم بی این

31. 8. 12
ایم بی این
ایم بی این

No. 81

For Insurance Notices see reverse.
Stamps affixed except in case of
uninsured letters of not more than
the initial weight prescribed in the
Post Office Guide or on which no
acknowledgment is due.

28-
Rs. Ps.
AD 5-
33-

Received a registered
addressed to

Education Date-Stamp

Initials of Receiving Office

*Write here "letter", "postcard", "packet" or "parcel"
with the word "insured" before it, when necessary.

Insured for Rs. (in figures) (in words)

If insured.

Insurance fee Rs. Ps. (in words) } Weight } Kilo Grams }
Name and address of sender }
9/10

ACKNOWLEDGEMENT DUE
CARD



یونیورسٹی وار لائبریری، فائن
پتہ: گلبرگ روڈ (ڈیپارٹمنٹ گلبرگ) لاہور

ڈاکخانہ گلبرگ
پوسٹ کوڈ
(پوسٹ کوڈ گلبرگ لاہور)

Answers to be
sent copy

Handwritten signature and date 12/11/44

مقدمہ

بعد الت جناب جی بی بی میں سرورس ٹریبونل ضلع بنوں

مقدمہ عنوان: یوسف خان بیٹیشنر بنام DEO بچو کین دمنہ

مرعی مدعی السید انور مسی

دعویٰ:

سرورس ٹریبونل

جرم:

24.3.13

مورخہ:

مخانب: بیٹیشنر

وکالت نامہ

20

باعث تحریر آنکہ

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان بالا میں اپنی طرف سے اسے پیروی و جواب دہی و کل کارروائی متعلقہ ان مقام

بنوں کے لیے عمرزاد شاہ بخاری ایڈوکیٹ / پلٹیڈر مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ

صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کامل اختیار ہو گا نیز وکیل صاحب کو راضی نامہ مقرر ثالث و فیصلہ پر

حلف دئے جواب دہی اور اقبال دعویٰ اور بصورت ڈگری کرانے اجراء وصولی نقد بذریعہ چیک عرضی دعویٰ اور

درخواست ہر قسم کی تصدیق زر اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہو گا نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری یک طرفہ یا اپیل

کی برآمدی اور منسوخی دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہو گا اور بصورت ضرورت مقدمہ

مذکورہ کے کل یا جزوی کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختیار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنی بجائے تقرر کا اختیار ہو

گا اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ اختیارات حاصل ہونگے اور اس کا ساختہ پر داختم منظور و قبول

ہو گا اور دوران مقدمہ میں جو خرچہ دہر جانہ التوائے مقدمہ کے سبب سے ہو گا اس کے مستحق وکیل صاحب

موصوف ہونگے نیز بقایا و خرچہ کی وصولی کرنے کا بھی اختیار ہو گا اگر کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ پر ہو تو وکیل

صاحب پابند ہونگے کہ پیروی مقدمہ مذکورہ کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھ دیا تاکہ سند رہے۔

مضمون وکالت سن لیا، اچھی طرح سمجھ لیا اور قبول و منظور ہے۔

Accepted

محمد سعید

العبد
یوسف خان بیٹیشنر
گواہ شد

دعا
کتابخانه
کتابخانه
کتابخانه
کتابخانه

کتابخانه
کتابخانه
کتابخانه

کتابخانه

55

کتابخانه
کتابخانه
کتابخانه
کتابخانه